



## 13731 - حدیث (من وبغ اخاه بذنب) کا معنی اور درجہ

سوال

معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ( جس نے اپنے بھائی کو کسی گناہ کی عاردلائی اسے وہ عمل کرنے سے قبل موت نہیں آئے گی ) سنن ترمذی -  
گزارش ہے کہ مندرجہ بالا حدیث کی بالتفصیل شرح فرمائیں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

یہ حدیث امام ترمذی نے کتاب صفة القيامة والورع ( 2429 ) میں روایت کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ( من عیر اخاه بذنب لم یمت حتی یعمله ) اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ضعیف الجامع حدیث نمبر ( 5710 ) میں موضوع فرار دیا ہے -

ضعیف اور موضوع احادیث سے نہ تو احکام ہی ثابت ہوتے اور نہ ہی ان دونوں پر عمل ہوسکتا ہے -

رہا مسئلہ اس حدیث کے معنی کا تو شیخ مبارکپوری کہتے ہیں :

یہ قول ( من عیر ) یہ تعییر سے ہے یعنی جس نے عیب لگایا ( اخاه ) یعنی دینی بھائی ( بذنب ) یعنی اس گناہ کا عیب دیا جس کی وہ توبہ کرچکا ہے امام احمد رحمہ اللہ نے اس کی تفسیریہ کی ہے ( لم یمت ) ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے ( حتی یعمله ) یعنی وہ گناہ جس کا اس نے اپنے بھائی پر عیب لگایا تھا -

گویا کہ جس نے اپنے بھائی پر کسی گناہ کا عیب لگایا اور اسے عاردلائی جیسا کہ قاموس میں ہے کہ اور وہ ہر چیز جسے لازم کرے وہ عیب ہوگا ، اسے اس کا بدلہ اس طرح دیا جائے گا کہ اس سے توفیق سلب کر لی جائے گی حتیٰ کہ جس چیزکی عارس نے اپنے بھائی کو دلائی تھی وہ بھی اس کا مرتکب ہوگا لیکن یہ اس وقت ہے جب اس نے اپنے بھائی کو عار اس لیئے دلائی کہ وہ اس سے بچا ہوا ہے اور اس نے اس پر خوشی کی ہو - تحفة الاحزوی ( 7 / 173 ) -

اس حدیث کے ضعیف ہونے کا یہ معنی نہیں کہ کسی گنہگار کو عاردلائی جائز ہے ، اور گناہ کرنے والوں کی کئی قسمیں ہیں :



کچھ توایسے ہوتے ہیں جو توبہ کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے ہیں ، یا پھر ان پر حملگا دی جاتی ہے ، تو ایسے اشخاص پر عیب لگانا اور انہیں عار دلانا جائز نہیں ، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو توبہ کرکے یا حد لگوا کر پاک کر لیا ہے ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

( گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کسی کا گناہ ہوئی نہ ) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ( 4140 ) اور بوصیری نے اسے صحیح کہا ہے جیسا کہ " الزوائد / حاشیة سنن ابن ماجہ " میں ہے -

اور امام احمد رحمہ اللہ نے جو سزا حدیث میں بیان کی گئی ہے اس شخص کے لیے حلال قرار دی جو اس شخص کو عار دلاتا ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہو ، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی تخریج کرنے کے بعد امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ :

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ : اس گناہ پر جس سے وہ توبہ کر چکا ہو -

اور ان میں ایسے گنہگار بھی ہیں جو گناہ کرتے لیکن اعلانیہ نہیں کرتے ، تو اس کے بارہ میں جسے علم ہو جائے اس پر ضروری ہے کہ وہ اسے نصیحت کرے اور اس کے گناہ پر پردہ ڈالے ،

اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہ اعلانیہ کرتے ہیں ، تو اسے بھی نصیحت کیجائے گی ، جس طرح کا تقاضا ہواں شخص سے لوگوں کو بچایا جائے -

ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

اس کا احتمال ہے کہ وہ یہ چاہتا ہو : آپ کا اپنے بھائے کو اس کے گناہ سے بھی سخت گناہ اور معصیت والا کام ہواں لیے کہ اس میں اطاعت کا اظہار اور تزکیہ نفس اور شکر اور گناہ سے برات کا اظہار ہے اور آپ کا بھائے اس کا مرتكب ہوا ہے -

اور ہوسکتا ہے کہ آپ نے اسے اس کے گناہ کی بنا اور جو کچھ اسے ذلت اور رسوائی حاصل ہوئے ہے اس کی بنا پر توڑ کر کر کھ دیا ہو ، اور تکبر ، دعویٰ کے مرض سے خلاصی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرجھ کائے اور عاجزی و انکساری والے دل کے ساتھ کھڑا ہونا تیری اطاعت کے اظہار اور اس کا بڑھا کر بیان کرنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق پر احسان جتلانے سے بہتر اور نفع مند ہے -

تو یہ گنہگار اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کتنا قریب ہے ، اور وہ ذلیل اللہ تعالیٰ کے غصہ اور تاراضگی کے کتنا قریب ہے ، تو ایسا گناہ جس سے تواں کے ہاں ذلیل ہواں اطاعت سے اچھا ہے جس کے ساتھ تواں پرجرات کرے ، اور یہ کہ تو رات سوکر گزارے اور صبح کوندامت کرنا تیرا رات قیام کرکے صبح تکبر کرنے سے بہتر ہے ، اس لیے کہ



تکبر کرنے والے کے اعمال اوپر نہیں جاتے ۔

اور یہ کہ تواعتراف کرتا ہوا ہنسے تیرے رونے اور جرات کرنے سے اچھا اور بہتر ہے ، اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار کی آہیں جرات اور تکبر کے ساتھ تسبیح کرنے کی آواز سے زیادہ محبوب ہیں ، اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس گناہ سے ایسی دوائی پلائی ہو جس سے ایک قاتل بیماری نکال باہر کی ہو جو تیرے اندر ہے جس کا تجھے علم ہی نہیں ۔

اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اطاعت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا جس سے اہل بصیرت ہی پاسکتے ہیں اور وہ بھی صرف اتنا کہ جومعارف بشری پاسکیں اور اس کے پیچھے ایسے اسرار ہیں جن پر کراما کاتبین بھی مطلع نہیں ہوسکتے ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

"جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کا ارتکاب کر لے تو اسے حد لگاؤ اور اسے ملامت نہ کی جائے ۔"

اور جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج تم پر کوئی ملامت نہیں

بیشک میزان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور حکم اللہ کا ہی ہے ، تو وہ کوڑا جواس گنہگار کومارا گیا ہے وہ دلوں کے پھر بنے والے کے ہاتھ میں ہے ، اور اس مقصد حد لگانا ہے نا کہ عاردلتا اور ملامت کرنا ، اور قدر اور اس کی طاقت سے بے خوف تو صرف جاہل ہی ہوتے ہیں ۔

اللہ تعالیٰ جو کہ اپنی مخلوق کو سب سے زیادہ جانتا اور زیادہ قریب ہے نے فرمایا ہے :

اور اگر ہم آپ کو ثابت قدمی سے نہ نوازتے تو آپ بھی ان طرف تھوڑا بہت مائل ہو بھی جاتے ۔

اور یوسف علیہ السلام علیہ نے فرمایا تھا :

اے اللہ اگر تو ان کے فریب اور ہتھکنڈوں کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو کر جاہلوں میں ہو جاؤں گا ۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر قسم اس طرح ہوا کرتی تھی " دلوں کو پھر بنے والے کی قسم "

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

" سب دل رحمن عزوجل کی انگلیوں کے درمیان ہیں اگر وہ اسے سیدھا رکھنا چاہے تو سیدھا رکھتا ہے اور اگر اسے ٹیڑھا کرنے چاہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے "



پھرنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا :

"اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينک اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" ، اے اللہ اے دلوں کو والٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے - مدارج السالکین ( 1 / 177 - 178 ) -

والله تعالیٰ اعلم .